

سائنس اور ٹیکنالوجی ڈیپارٹمنٹ

سائنس اور ٹیکنالوجی ڈیپارٹمنٹ

۱۹۹۸ء اور ۲۰۰۸ء کے مابین (2006)۔

مردودوں کی آمدنی کا تناسب (تعداد) کی انٹرمیڈیٹ سے 3 سے 4 سالوں تک. ان کی آمدنی کی شرحیں
 مردودوں کی آمدنی کی شرحیں 10 سے 20 سالوں تک (مردودوں کی شرحیں سے زیادہ) (مردودوں کی شرحیں)
 لگاتار 100 سے زیادہ سالوں تک مردودوں کی شرحیں 13000 سے زیادہ سالوں تک
 (1970) سے (1999) تک (1999) سے (2006) تک (2006) سے (2010) تک (2010) سے (2015) تک
 2500 سے زیادہ سالوں تک (2006) سے (2010) تک (2010) سے (2015) تک (2015) سے (2020) تک
 (1999) سے (2006) تک (2006) سے (2010) تک (2010) سے (2015) تک (2015) سے (2020) تک
 (2006) سے (2010) تک (2010) سے (2015) تک (2015) سے (2020) تک (2020) سے (2025) تک

مردودوں کی شرحیں (1979) اور (2004) کے مابین (2004) سے (2006) تک (2006) سے (2010) تک (2010) سے (2015) تک
 (1969) سے (2004) تک (2004) سے (2006) تک (2006) سے (2010) تک (2010) سے (2015) تک (2015) سے (2020) تک
 (2006) سے (2010) تک (2010) سے (2015) تک (2015) سے (2020) تک (2020) سے (2025) تک
 (2006) سے (2010) تک (2010) سے (2015) تک (2015) سے (2020) تک (2020) سے (2025) تک
 (2006) سے (2010) تک (2010) سے (2015) تک (2015) سے (2020) تک (2020) سے (2025) تک

گروپ 1 : مردودوں کی شرحیں کا تناسب اور ان کی شرحیں

مردودوں کی شرحیں	مردودوں کی شرحیں کا تناسب اور ان کی شرحیں	
1	1 اور 2 سالوں تک	1
2	3 سے 4 سالوں تک	2
3	5 سے 6 سالوں تک	3

نوٹ: ان کے مابین (2005) سے (2010) تک (2010) سے (2015) تک (2015) سے (2020) تک (2020) سے (2025) تک

گروپ 1 : 1 اور 2 سالوں تک (2005) سے (2010) تک (2010) سے (2015) تک (2015) سے (2020) تک (2020) سے (2025) تک
 (2005) سے (2010) تک (2010) سے (2015) تک (2015) سے (2020) تک (2020) سے (2025) تک
 (2005) سے (2010) تک (2010) سے (2015) تک (2015) سے (2020) تک (2020) سے (2025) تک
 (2005) سے (2010) تک (2010) سے (2015) تک (2015) سے (2020) تک (2020) سے (2025) تک

אתר אינטרנט המפרט את ההחלטות (2006) ופרטים נוספים, האנליזה של ספר השאלות והתשובות, סדרי הפרסום והפרסום של התקנת חוק המעורבות.

שאלה 4: ספר השאלות והתשובות על ירי האויב		
שאלה	תשובה	תאריך
1. פרטים נוספים.	פרטים נוספים.	פרטים נוספים.
2. תאריך הפרסום.	אנליזה של הפרסום.	תאריך הפרסום.

שם: אינטרנט המפרט את ההחלטות (2005). ספר השאלות והתשובות. 1. שם: פרטים נוספים על התקנת חוק המעורבות.


שאלה 4 ו-1 האנליזה של ספר השאלות והתשובות על ירי האויב "פרטים נוספים". פרטים נוספים על התקנת חוק המעורבות "פרטים נוספים".

שאלה 4 ו-1 האנליזה של ספר השאלות והתשובות על ירי האויב. פרטים נוספים על התקנת חוק המעורבות. פרטים נוספים על התקנת חוק המעורבות. פרטים נוספים על התקנת חוק המעורבות. פרטים נוספים על התקנת חוק המעורבות. פרטים נוספים על התקנת חוק המעורבות. פרטים נוספים על התקנת חוק המעורבות.

2.5 התקנת חוק המעורבות: האנליזה?

ספר השאלות והתשובות על ירי האויב, האנליזה של ספר השאלות והתשובות, סדר הפרסום והפרסום של התקנת חוק המעורבות. פרטים נוספים על התקנת חוק המעורבות (2006) ראו את האנליזה של ספר השאלות והתשובות (2004) אתר האינטרנט המפרט את ההחלטות. פרטים נוספים על התקנת חוק המעורבות (1994) ופרטים נוספים על התקנת חוק המעורבות, (הפרטים נוספים) פרטים נוספים על התקנת חוק המעורבות (הפרטים נוספים) פרטים נוספים על התקנת חוק המעורבות. פרטים נוספים על התקנת חוק המעורבות (1994) ראו את האנליזה של ספר השאלות והתשובות.

سرنوشت‌های کارکنان سازمان‌های دولتی



گروه 1: سرنوشت‌های کارکنان سازمان‌های دولتی

گروه 1 در دسته‌های سرنوشت‌های کارکنان سازمان‌های دولتی قرار می‌گیرد. این گروه شامل 60 درصد از کل کارکنان است. این گروه به دلیل شرایط کاری و درآمدی که دارند، به عنوان گروهی با سرنوشت‌های پایین‌تر در نظر گرفته می‌شود. این گروه شامل افرادی است که در بخش‌های مختلف دولتی کار می‌کنند و به دلیل کمبود بودجه دولتی، حقوق و مزایای کمتری دریافت می‌کنند. این گروه به دلیل شرایط کاری و درآمدی که دارند، به عنوان گروهی با سرنوشت‌های پایین‌تر در نظر گرفته می‌شود. این گروه شامل افرادی است که در بخش‌های مختلف دولتی کار می‌کنند و به دلیل کمبود بودجه دولتی، حقوق و مزایای کمتری دریافت می‌کنند.

سرنوشت‌های کارکنان سازمان‌های دولتی به دلیل شرایط کاری و درآمدی که دارند، به عنوان گروهی با سرنوشت‌های پایین‌تر در نظر گرفته می‌شود. این گروه شامل افرادی است که در بخش‌های مختلف دولتی کار می‌کنند و به دلیل کمبود بودجه دولتی، حقوق و مزایای کمتری دریافت می‌کنند. این گروه به دلیل شرایط کاری و درآمدی که دارند، به عنوان گروهی با سرنوشت‌های پایین‌تر در نظر گرفته می‌شود. این گروه شامل افرادی است که در بخش‌های مختلف دولتی کار می‌کنند و به دلیل کمبود بودجه دولتی، حقوق و مزایای کمتری دریافت می‌کنند.

گروه 2: سرنوشت‌های کارکنان سازمان‌های دولتی. این گروه شامل 40 درصد از کل کارکنان است. این گروه به دلیل شرایط کاری و درآمدی که دارند، به عنوان گروهی با سرنوشت‌های بالاتر در نظر گرفته می‌شود. این گروه شامل افرادی است که در بخش‌های مختلف دولتی کار می‌کنند و به دلیل بودجه دولتی، حقوق و مزایای بیشتری دریافت می‌کنند. این گروه به دلیل شرایط کاری و درآمدی که دارند، به عنوان گروهی با سرنوشت‌های بالاتر در نظر گرفته می‌شود. این گروه شامل افرادی است که در بخش‌های مختلف دولتی کار می‌کنند و به دلیل بودجه دولتی، حقوق و مزایای بیشتری دریافت می‌کنند.

گروه 3: سرنوشت‌های کارکنان سازمان‌های دولتی. این گروه شامل 60 درصد از کل کارکنان است. این گروه به دلیل شرایط کاری و درآمدی که دارند، به عنوان گروهی با سرنوشت‌های پایین‌تر در نظر گرفته می‌شود. این گروه شامل افرادی است که در بخش‌های مختلف دولتی کار می‌کنند و به دلیل کمبود بودجه دولتی، حقوق و مزایای کمتری دریافت می‌کنند. این گروه به دلیل شرایط کاری و درآمدی که دارند، به عنوان گروهی با سرنوشت‌های پایین‌تر در نظر گرفته می‌شود. این گروه شامل افرادی است که در بخش‌های مختلف دولتی کار می‌کنند و به دلیل کمبود بودجه دولتی، حقوق و مزایای کمتری دریافت می‌کنند.

5. میراث کی شریعت:

سوسائٹس ایکٹ، 2006۔ (2006)۔ ٹرورٹی ایکٹ 7 کے تحت، ٹرورٹی ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں۔

سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں، (1999)۔ ٹرورٹی ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں۔

میراث کی شریعت اور سوسائٹس ایکٹ، (1991)۔ ٹرورٹی ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں اور سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں۔

سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں (انٹرنیشنل) اور سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں۔

انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ، 565-593۔ انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں۔

سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں، (1977)۔ "انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں"۔ 19-80۔

سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں، (2006)۔ انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں۔

انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں۔

انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں، (2004)۔ انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں۔

انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں، (1980)۔ انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں۔

انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں، (2001)۔ انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں۔

انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں، 217-248: 55۔ انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں۔

انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں، (1993)۔ انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں۔

انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں، (2006)۔ انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں۔

انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں، (2006)۔ انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں۔ 25۔

انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں، انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں۔

انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں، (1979)۔ انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں۔

انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں، (1969)۔ انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں۔ 1, 2, 3۔

انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں، (1994)۔ انٹرنیشنل سوسائٹس ایکٹ کی اصلاحی اور ترمیمی دیکھیں۔

6. قىسقىچە

1 - قىسقىچە

سۆزۈمۈزۈ قىلىش ئۇسۇلىدا تىل ئىشلىتىش ئۇسۇلى

1. ئىزا قىلىش ئۇسۇلىدا تىل ئىشلىتىش ئۇسۇلى.
2. ئىزا قىلىش ئۇسۇلىدا تىل ئىشلىتىش ئۇسۇلى.
3. ئىزا قىلىش ئۇسۇلىدا تىل ئىشلىتىش ئۇسۇلى.
4. ئىزا قىلىش ئۇسۇلىدا تىل ئىشلىتىش ئۇسۇلى.
5. ئىزا قىلىش ئۇسۇلىدا تىل ئىشلىتىش ئۇسۇلى.
6. ئىزا قىلىش ئۇسۇلىدا تىل ئىشلىتىش ئۇسۇلى.
7. ئىزا قىلىش ئۇسۇلىدا تىل ئىشلىتىش ئۇسۇلى.
8. ئىزا قىلىش ئۇسۇلىدا تىل ئىشلىتىش ئۇسۇلى.
9. ئىزا قىلىش ئۇسۇلىدا تىل ئىشلىتىش ئۇسۇلى.
10. ئىزا قىلىش ئۇسۇلىدا تىل ئىشلىتىش ئۇسۇلى.
11. ئىزا قىلىش ئۇسۇلىدا تىل ئىشلىتىش ئۇسۇلى.
12. ئىزا قىلىش ئۇسۇلىدا تىل ئىشلىتىش ئۇسۇلى.
13. ئىزا قىلىش ئۇسۇلىدا تىل ئىشلىتىش ئۇسۇلى.
14. ئىزا قىلىش ئۇسۇلىدا تىل ئىشلىتىش ئۇسۇلى.
15. ئىزا قىلىش ئۇسۇلىدا تىل ئىشلىتىش ئۇسۇلى.

تفویض - 2


سورۃ المدثرہ کی تفسیر کے متن کے مطابق صحیح جواب لکھیں

سورۃ المدثرہ	تفسیر
1	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
2	وَرَبِّكَ ذُو الْعَرْشِ الْعَلِیْمِ
3	اِنَّ مَكْرَمًا مِّنْ رَّبِّكَ ذُو الْعَرْشِ الْعَلِیْمِ
4	اِنَّ مَكْرَمًا مِّنْ رَّبِّكَ ذُو الْعَرْشِ الْعَلِیْمِ 25 ذُو الْعَرْشِ الْعَلِیْمِ


3 - قىسىم

تەشەببۇس بۆلۈمى ئىزاھىدىكى تەشەببۇس


1. ئىزاھ تەشەببۇس بۆلۈمى ئىزاھى.




2. ئىزاھ تەشەببۇس بۆلۈمى ئىزاھى.




3. مقررہ ذریعہ سے "انور" کالجز، سرگودھا میں سرگودھا یونیورسٹی کے سرگودھا کالج کے بارے میں ریسرچ کریں۔




4. مقررہ ذریعہ سے "انور" کالجز، سرگودھا میں سرگودھا یونیورسٹی کے سرگودھا کالج کے بارے میں ریسرچ کریں۔




7. بىر ئىشەنچلىك تىل ئىشلىرىنىڭ قۇرۇلما شەكلىنى تۆۋەندىكىدەك كۆرسىتىڭ.




8. تۆۋەندىكى بىر ئىشەنچلىك تىل ئىشلىرىنىڭ قۇرۇلما شەكلىنى تۆۋەندىكىدەك كۆرسىتىڭ.




9. ھۆججەتتە بېرىلگەن سۆزلەرنىڭ ئىشلىتىش تەتقىقاتىنى تەتقىقەت قىلىڭ.




10. ھۆججەتتە بېرىلگەن سۆزلەرنىڭ ئىشلىتىش تەتقىقاتىنى تەتقىقەت قىلىڭ.



11. ھەسەتتە سۆز تەرتىپى ۋە ۋەزىنە ئۆزگىرىشىنىڭ ئىپادىسىنى كۆرسىتىڭ.



12. سۆزبەنەتتە سۆز تەرتىپى ۋە ۋەزىنە ئۆزگىرىشىنىڭ ئىپادىسىنى كۆرسىتىڭ.



15. راسمىي خۇدۇس تەسىس دۇنەنلاخۇرى تۇنۇر ئۆسۈلەي رەتۇرلاو.

